



## سوال

(273) نماز جنازہ مسجد کے صحن میں پڑھنا جائز ہے

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نماز جنازہ مسجد کے صحن میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نماز جنازہ مسجد میں جائز ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا، حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا جنازہ مسجد میں پڑھا گیا اللہ اعلم (۱ صفر ۲۸ھ) تشریح: ... از روئے حدیث صحیح کے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز و درست ہے منتقٰی الاخبار میں ہے گ عن عائشۃ انھا قالت لما توفی سعد بن ابی وقاص ادخلوا بہ المسجد حتی اصلى علیہ فانکرہ واذلک علیما فقالت لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی بیضاء فی المسجد سہیل وانیہ رواہ مسلم و فی روایت ماصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن ایضاء الا فی جوف للمسجد رواہ الجماعة الا بخاری اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنازہ کی نماز مسجد ہی میں پڑھی گئی تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ کے درست اور جائز ہونے پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع و اتفاق تفاق الباری میں ہے۔ وقد روی ابن ابی شیبہ وغیرہ ان عمر صلی علی ابن بکر فی المسجد وان صحیبا صلی علی عمر فی المسجد و فی روایہ وضع فی الجنازۃ فی المسجد تجاہ المنبر وھذی یقتضی الاجماع علی جواز ذلک الخ (حررہ محمد یوسف عفی عنہ سید نذیر حسین، فتاویٰ نذیریہ جلد ۱ ص ۴۰۳، فتاویٰ ثنائیہ جلد اول ص ۵۴۱)

## قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل

جلد 02

محدث فتویٰ